

1+2=3



عسکری  
 ایجوکیشن اینڈ میرج پلان

قیمتوں میں دن بدن تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورت حال میں یہ تصور کرنا انتہائی مشکل ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور ان کی شادیوں کے اخراجات کو کس طرح سے پورا کریں۔ عسکری بینک، ای ایف یو لائف کے اشتراک سے پیش کرتا ہے چائلڈ ایجوکیشن اور میرج پلان جو آپ کے بچوں کے مستقبل کو مالی اعتبار سے محفوظ بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا مناسب پلان ہے جو آپ کے بچے کی کالج اور جامعہ کی فیس، ان کی شادی کے اخراجات اور مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انتہائی مناسب طریقے سے وقت مقررہ پرنسپل زفر اہم کرتا ہے۔

یہ پلان آپ کو صرف بچت کے اعلیٰ اصولوں سے ہی آگاہ نہیں کرتا بلکہ آپ کو مخصوص ضروریات کے مطابق مختلف اختیارات میں سے انتخاب کی چلک اور تحفظ زندگی کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔

### یونٹ ایکومولیشن اینڈ انویسٹمنٹ فنڈ:

نہ ہو تو یہ رقم ای ایف یو لائف کے پاس بڑھنے کیلئے زیادہ سے زیادہ مزید ایک سال کیلئے چھوڑی جاسکتی ہے، اس ایک سال کے اختتام پر ای ایف یو لائف جمع شدہ رقم اور سالانہ پربیم 20% فیصد میچورٹی انویسٹمنٹ بونس کے طور پر ادا کرے گی۔

اس پلان کے تحت جمع شدہ ہر پربیم کو صارف کے انتخاب کے مطابق ای ایف یو لائف کے انٹرئل انویسٹمنٹ فنڈ میں لگایا جاتا ہے۔ اس رقم کو مروجہ آفرز پر فنانس کے پونڈ خریدنے کیلئے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد سرمایہ کی پیداوار کو ایک پُر وسعت متوازن تجارتی پورٹ فولیو میں سرمایہ کاری کر کے زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے۔ اس فنڈ کی نگرانی سرمایہ کاری کے ماہرین کرتے ہیں جو معاشی حالات اور سرمایہ کاری کے مواقع کی روشنی میں بنیادی سرمایہ کاریوں کی آمیزش کو ترتیب دیتے ہیں۔

### وفات کے بعد جاری رہنے والا فائدہ:

#### Continuation Benefit

بچت کی مدت کے دوران، خدانخواستہ بیمہ شدہ شخص (ماں یا باپ) کے انتقال کی صورت میں، خود ساختہ مستقبل کیلئے جمع شدہ فنڈ کا فائدہ کنٹینیوئیشن بینیفٹ یہ یقین دلاتا ہے کہ پلان کی تکمیل پر ہدف شدہ فنڈ حاصل ہو جائے، ای ایف یو لائف منصوبے میں حصے شامل کرنا جاری رکھے گی۔

### فنڈ کے انتخاب کی سہولت:

عسکری بینک کے پالیسی ہولڈرز کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ سرمایہ کاری کے مقاصد کی بنیاد پر اپنے رسک / خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی ایک فنڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ پالیسی ہولڈر درج ذیل تین یونٹ فنڈز میں سے کسی بھی ایک فنڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں (شرائط لاگو ہوں گی)۔

### بلٹ ان انکم بینیفٹ:

#### Built-in Income Benefit

خود ساختہ انکم بینیفٹ کے تحت یہ پلان اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پلان کی مدت کے دوران خدانخواستہ بیمہ شدہ شخص کے انتقال کی صورت میں سہ ماہی انکم اس کے اہل خانہ کو ملتی رہے۔ کسٹمر درج ذیل انکم لیول میں سے کوئی ایک منتخب کر سکتا ہے:

- 7,500 روپے سہ ماہی
- 12,000 روپے سہ ماہی
- 18,000 روپے سہ ماہی

### پلان کی تکمیل پر ملنے والا بونس (میچورٹی بینیفٹ)

پلان کی تکمیل پر یہ منصوبہ جمع شدہ فنڈ کی قدر (رقم) فراہم کرتا ہے جو یکمشت لی جاسکتی ہے۔ اگر فنڈ کی فوری طور پر ضرورت

ریگولر انکم کو بچے کی تعلیمی ضروریات اور تعلیم سے متعلق اخراجات میں استعمال کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ بچے کی منگنی یا شادی کے وقت یا خاندان کی کفالت کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کر سکتے ہیں جسے ”فنڈ ایکسلیکیشن پریمیم“ کہتے ہیں۔ یہ فنڈ پالیسی مدت کے دوران کسی بھی وقت جمع کرایا جاسکتا ہے۔  
فنڈ ایکسلیکیشن پریمیم کی ادائیگی کے لئے کم از کم پریمیم 18,000 روپے ہے۔

### فنڈ ایکسلیکیشن پریمیم:

#### Fund Acceleration Premiums

یہ ریگولر پریمیم کا پلان ہے جو آپ کو اپنی بچت کو مزید بڑھانے کی لچک بھی مہیا کرتا ہے جسے آپ بجائے ہوئے اضافی فنڈ حصوں کے طور پر منصوبے میں جمع کرا کے حاصل

یونٹس میں سرمایہ کاری کے لیے حصے کا تناسب پالیسی سال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے جو درج ذیل ہے:

| پالیسی سال         | ایلوکیشن کی شرح |
|--------------------|-----------------|
| 1                  | 40 فیصد         |
| 2                  | 80 فیصد         |
| 3                  | 90 فیصد         |
| 4 اور 5            | 100 فیصد        |
| 6 سے 10            | 103 فیصد        |
| 11 اور اس سے زیادہ | 105 فیصد        |

### چار جز:

پلان پر درج ذیل چار جز کا اطلاق ہوگا:

انویسٹمنٹ مینجمنٹ چار جز: فنڈ قدر کی رقم کا 0.125 فیصد ماہانہ  
بڈ آف اسپرڈ مجموعی ریگولر کنٹری یوشن کا 5 فیصد  
انتظامی اخراجات: 50 روپے ماہانہ

### بچت تک ہر وقت رسائی:

پلان کے تحت مجموعی بچت تک مکمل رسائی حاصل ہے، پلان میں جمع شدہ تمام یونٹس، منصوبے کی مدت کے دوران اپنی کل قدر یا جزوی قدر میں، کسی بھی وقت واپس لیے جاسکتے ہیں۔

### پریمیم کی حد:

سالانہ پریمیم کی ادائیگی کے لئے کم از کم حد 18,000 روپے ہے۔

### عمر کی حد اور مدت:

انفرادی طور پر اس پلان میں شامل ہونے کے لیے کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 65 سال ہے۔ اس پلان میں بچت

کی مدت کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال ہے۔ بچت کے لیے شرط اس طرح منتخب کی جائیگی کہ بیمہ کئے جانے والے فرد کی عمر پلان کے اختتام پر 75 سال سے زیادہ نہ ہو۔

### ایڈیشنل بینیفٹ رائٹرز:

اس پلان کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کے لیے درج ذیل اضافی فائدے دستیاب ہیں جو پلان کے ساتھ منسلک کی جاتی ہیں:

- حادثاتی موت اور معذوری کی صورت میں فوائد ایکسٹینڈڈ ڈیڈ ویٹھ اینڈ سبیلیٹی بینیفٹ

- پریمیم بینیفٹ میں چھوٹ واپور آف پریمیم

## ڈسکلیمز (Disclaimers)

- یہ پروڈکٹ ای ایف یولائف اشورنس لمیٹڈ، نے انڈر رائٹ کی ہے، عسکری بینک یا اس سے منسلک اداروں نے نہ ہی اس کی ضمانت دی ہے اور نہ ہی اس کی انشورنس کی ہے نیز یہ عسکری بینک کی پروڈکٹ نہیں ہے۔
- یہ پروڈکٹ ای ایف یولائف کی پیش کردہ ہے، عسکری بینک اپنے قابل قدر صارفین کے لئے اس پروڈکٹ کا تقسیم کار ہے۔
- فنڈ کی سابقہ کارکردگی ضروری نہیں کے مستقبل کی نشاندہی کرے، اسی طور پر کوئی بھی پیشن گوئی فنڈ کے ممکنہ یا مستقبل کی کارکردگی کے طور پر لینا ضروری نہیں ہے، نہ ہی ای ایف یولائف اور عسکری بینک اس کے لئے کوئی ذمہ داری قبول کریں گے۔
- منتخب کردہ فنڈ میں سرمایہ کاری میں کارکردگی کا ریسک بیمہ دار کی ذمہ داری ہوگی۔
- ہمارا سیلز نمائندہ آپ کو فوائد کی ایک (انفرادی) تشریح مہیا کرے گا، برائے مہربانی مختلف شرائط و ضوابط کو تفصیلی طور پر سمجھنے کے لیے تشریح میں دیے گئے نوٹس کو غور سے پڑھئے۔
- بینک کے شیڈول آف چارجز یا متعلقہ اداروں کے مقرر کردہ ٹیکسز کے قوانین کے تحت سروس چارجز اور ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔
- یہ معاہدہ کس طرح کام کرتا ہے، اسے پالیسی کے قواعد و شرائط میں بیان کیا گیا ہے، پروڈکٹ کا یہ بروشر (کتا بچہ) اس کے خدوخال اور فوائد کا ایک عمومی جائزہ پیش کرتا ہے۔

### EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House: Plot No. 112, 8th

East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan.

Tel: (021) 111-EFU-111 (111-338-111) Fax: (021) 34537519

Website: www.efulife.com

### ASKARI BANK LIMITED

AWT Plaza, The Mall, P.O. Box 1084, Rawalpindi.

Call Center: 0800-00078

Website: www.askaribank.com.pk